



یہ کہ جب تم کھاؤ تو اسہ بھی کھلاؤ، جب پہنو یا یوں فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اسہ بھی پہناؤ، چہرہ پر نہ مارو، برا بہلا نہ کرو اور گھر کے علاوہ کسی اور جگہ اس سے علاحدگی اختیار نہ کرو

حکیم بن معاویہ قشیری رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! تم پر ہماری بیوی کے کیا حق ہیں؟ آپ نے فرمایا: جب تم کھاؤ تو اسہ بھی کھلاؤ، جب پہنو یا یوں فرمایا: جب تم کھاؤ تو اسہ بھی پہناؤ، چہرہ پر نہ مارو، برا بہلا نہ کرو اور گھر کے علاوہ کسی اور جگہ اس سے علاحدگی اختیار نہ کرو

[حسن] [اسہ ابن ماجہ نے روایت کیا ہے - اسہ امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے - اسہ امام احمد نے روایت کیا ہے]

معاویہ قشیری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے بیوی کے لازمی حقوق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں بتایا کہ اس کے لازمی حقوق میں یہ بھی شامل ہے، اپنی گنجائش اور طاقت کے مطابق، اس کو کھلائیں اور پہنائیں پھر آپ نے شوہر کو اس بات سے باز رہنے کی تاکید فرمائی کہ وہ بیوی کو چہرہ پر مارے اور اس کے ساتھ سخت گالی گلوچ کرے اور اس سے جدائی اختیار نہ کرے مگر اسی کے گھر میں اور بیوی سے اس کی یہ علاحدگی (بشرطیکہ اس کو سزا و سرزنش کرنا مقصود نہ ہو) صرف بستر سے الگ کرنے تک محدود رہے گی نہ ہی وہ کسی اور مکان میں منتقل ہوگا اور نہ ہی بیوی کو کسی اور گھر میں منتقل کرے گا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/58093>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

